

تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیٹر آفس
جامعہ ملیہ اسلامیہ

نئی دہلی

5 نومبر 2020

پریس ریلیز

یونیورسٹی آف اسٹین فورڈ ، امریکہ نے جامعہ کے پروفیسر عمران علی کو
ہندوستان میں تجزیاتی کیمسٹری کا اولین سائنسدان قرار دیا
جامعہ کے 12 دیگر محققین عالمی سطح پر 2 فیصد سائنسدانوں کی فہرست
میں شامل

جامعہ ملیہ اسلامیہ کے لئے یہ فخر کی بات ہے کہ اسٹین فورڈ یونیورسٹی
امریکہ کے سائنسدانوں کے ایک گروپ نے شعبہ کیمسٹری کے پروفیسر
عمران علی کو تجزیاتی کیمسٹری کے شعبے میں ہندوستان میں اولین سائنسدان
قرار دیا ہے۔ یہ فہرست عالمی سطح پر مشہور جریدہ پی ایل او ایس ، بائیولوجی
میں شائع کی گئی ہے۔ پروفیسر علی دنیا کے 24 ویں نمبر پر ہیں جبکہ ملک
میں پہلے نمبر پر ان کا نام ہے۔

پی ایل او ایس حیاتیات نے 68،80،389 (ساٹھ آٹھ لاکھ اسی ہزار تین سو
نواسی) سائنس دانوں کی فہرست شائع کی ہے ۔ "سائنسی حوالہ اشاریہ کے
جدید ترین سائنس سے متعلق مصنفین کے ڈیٹا بیس" کے عنوان سے مقالے کے
مصنف جون پی اے نونی ڈس ایٹ ایل ہیں۔

پروفیسر علی کے علاوہ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے متعدد
محققین نے 60 لاکھ پلس گلوبل سائنسدانوں کی فہرست میں اولین دو فیصد
پوزیشن حاصل کی۔ بیسک سائنسز میں بین الاقوامی شعبہ تحقیق کے مرکز میں
آئی این ایس اے کے سینئر سائنس دان پروفیسر فیضان احمد کو بائیو فزکس کے
شعبے میں ملک کا چوتھا سائنسدان قرار دیا گیا ہے۔ یونیورسٹی کے دیگر
سائنسدان جنہوں نے مابعد دو فیصد اعلیٰ سائنسدانوں کی فہرست میں اپنا نام
محفوظ کر لیا وہ درج ذیل ہیں:

آل انڈیا رینک: نیوکلیر اینڈ پارٹیکل فزکس میں 10، پروفیسر محمد سمیع ، سینئر
فار تھیورٹیکل فزکس

آل انڈیا رینک: نیوکلیئر اینڈ پارٹیکل فزکس میں 31، پروفیسر انجن آنند سین ،
 سینٹر فار تھیورٹیکل فزکس
 آل انڈیا رینک: پولیمر میں 1048، پروفیسر شریف احمد ، شعبہ کیمسٹری
 آل انڈیا رینک: بائیو کیمسٹری اور سالماتی حیاتیات میں 377، پروفیسر حسیب
 احسن ، ڈینٹسٹری کی فیکلٹی
 آل انڈیا رینک: نیوکلیئر اینڈ پارٹیکل فزکس میں 782، پروفیسر سوشانت گھوش
 ، نظریاتی طبیعیات کے مرکز
 ماحولیاتی علوم میں آل انڈیا رینک: 831، پروفیسر تبریز اے خان ، شعبہ کیمیا
 آل انڈیا رینک: تجزیاتی کیمسٹری میں 1182، ڈاکٹر رفیق احمد ، راملنگسوامی
 فیلو ، سینٹر فار نانو سائنس اور نینو ٹکنالوجی
 آل انڈیا رینک: جیولوجیکل اینڈ جیو میٹرک انجینئرنگ میں 1219، ڈاکٹر عتیق
 الرحمن ، شعبہ جغرافیہ
 آل انڈیا رینک: بزنس اینڈ مینجمنٹ میں 1422، ڈاکٹر عابد حلیم ، مکینیکل
 انجینئرنگ کے سیکشن
 آل انڈیا رینک: 1540 ، ڈاکٹر ارون سنگھ ، شعبہ فزکس
 آل انڈیا رینک: میں 1687، پروفیسر توقیر احمد ، شعبہ کیمیا
 آل انڈیا رینک: بائیو فزکس میں 1746، ڈاکٹر محمد امتیاز حسن ، بین الکلیاتی
 تحقیق کے مرکز بیسک سائنس

پروفیسر نجمہ اختر ، وائس چانسلر جامعہ ملیہ اسلامیہ نے اس پر خوشی کا
 اظہار کیا اور تمام سائنس دانوں کو مبارکباد پیش کہ انہوں نے یہ مژدہ جانفزا
 اس وقت سنائی جب یونیورسٹی اپنے صدی سال کا جشن منارہی ہے ۔ انہوں نے
 کہا کہ سائنس دانوں کی اس صف نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ جامعہ ملیہ
 اسلامیہ اعلیٰ معیار کی تحقیق اور تدریس دونوں میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ
 کر رہی ہے۔

احمد عظیم
 پی ار او-میڈیا کوآرڈینیٹر